



Regd. No. DL (C)-01/1315/2010/2012
 روزنامہ 'جدید خبر' نئی دہلی

www.jadidkhabar.com

نئی دہلی

ایڈیٹر: مصدق احمد آبادی

روزانہ
 جدید



سنگل 11 نومبر 2014 مطابق 17 مہینہ 1436 ہجری: 11 شمارہ: 344 (Total Page-8) Tuesday 11 November 2014 Vol. 11 No. 344 R.N.I. No. DELURD/2003/11433 Rs.2/-

8

Daily
 JADID KHABAR New Delhi
 Tuesday 11 November 2014

جید خبر

سنگل

11 نومبر 2014

سی سی آر یو ایم میں لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ

این آئی سی ایف سوفاٹ ویئر کونسل کے تمام کتب خانوں کو بتدریج فراہم کرائیگی اور اس کی تطبیق اور استعمال سے متعلق ہر ممکن تعاون پیش کرے گی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر وی کے سر یواسٹو، ہیڈ، پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن، این آئی سی ایم آر، نئی دہلی نے کہا کہ ہندوستان میں لائبریری آٹومیشن کی کوشش ۶۰ کی دہائی میں شروع ہوئی تھی جو کہ اب کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ انھوں نے لائبریری آٹومیشن کی افادیت پر روشنی ڈالی اور کونسل کو ورکشاپ کے انعقاد کے لیے سراہا۔ قبل ازیں ڈاکٹر خالد محمود صدیقی، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، سی سی آر یو ایم نے کہا کہ ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد کونسل کے مراکز میں کام کر رہے لائبریری اسٹاف کو لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ کی ٹریننگ دینا ہے تاکہ وہ کونسل کی لائبریریوں کے آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ کے عمل میں معاون ہو سکیں اور اس عمل سے لائبریری کے کام کاج میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ ورکشاپ کے آرگنائزنگ سیکرٹری محمد انظہر خاں نے مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔



10-12 November 2014
 CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN UNANI MEDICINE
 Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

سے لائبریریاں ہمارے کمپیوٹر پر دستیاب ہیں۔ اس سہولت کو کونسل کی تمام لائبریریوں میں دستیاب کرانا، انٹرنیٹ ورکنگ کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑنا اور ان سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ تحقیقی کاموں میں تیزی اور آسانی پیدا ہوگی، بلکہ وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوگی۔ نیشنل انفارمٹیکس سینٹر (این آئی سی)، نئی دہلی کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر آر کے مٹور نے کہا کہ ای۔گورنمنٹ ایف سوفاٹ ویئر جسے این آئی سی نے ہی بنایا ہے یہ کتب خانوں کے آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ کی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اور این آئی سی ایف سوفاٹ ویئر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کو مفت مہیا کرتی ہے۔ مٹور نے کہا کہ

نئی دہلی، ۱۰ نومبر (پریس ریلیز) تحقیق کی شروعات گزشتہ تحقیقات کے مطالعہ اور پہلے سے موجود معلومات کی چھان بین سے ہوتی ہے جو کہ لائبریری کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے لائبریری کے بغیر تحقیق کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سید شاہ جہیل، ڈائریکٹر جنرل، سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن (سی سی آر یو ایم) نے کیا۔ آج صبح لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر سی سی آر یو ایم کی سہ روزہ ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے پروفیسر جہیل نے کہا کہ انفارمیشن ٹکنالوجی کی بدولت پچھلے چند سالوں میں لائبریری کا تصور بالکل بدل گیا ہے۔ آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ جیسی سہولت

RNI REGISTRATION NO: 63570/96

آج سوئے کاریت
زیادہ کیوں ادا کریں؟
ہول سیل
قیمت پر
100% واپس لے کر دیں
5% کم
RS 20790
قیمت
Rama Krishna
Jeweller Pvt. Ltd.
22/22 کھنڈت ہائی وے، جلیو لڑی، ہول سیل خصوصیتوں پر
D-34، سنٹرل مارکیٹ، لالپٹ نگر، 11 شرن، 47874787

اخبار مشرق

Published simultaneously from Delhi, Calcutta & Ranchi

REGD.NO.DL(E)05/109/12-14
TODAY'S GOLD RATE
RS 20790
per 10 gm.
WHY PAY MORE? Diamond Jewellery Wholesale Price
5% ONLY ON ALL ITEMS
100% BUY BACK GUARANTEE only at
Rama Krishna Jeweller Pvt. Ltd.
also available
22/22 ct. Hallmark Jewellery at wholesale prices
D-34, Central Mkt. Lajpat Nagar-II, Ph: 47874787

Price: Rs 2.00 Pages: 12

Delhi, Tuesday 11th November 2014 Moharram 17 | 1436 A.H.

روزنامہ

AKHBAR-E-MASHRIQ

تاریخ

دہلی، منگل 11 نومبر 2014ء مطابق 17 محرم الحرام 1436ھ

Akhbar-e-Mashriq Delhi
Tuesday 11th November 2014 Moharram 17 | 1436 A.H.

کون جائے نواب دلی کی گلیاں چھوڑ کر

akhbare mashriq.com
منگل 11 نومبر 2014ء مطابق 17 محرم الحرام 1436ھ

اخبار مشرق

سی سی آر یو ایم میں لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ



ان سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ تحقیقی کاموں میں تیزی اور آسانی پیدا ہوگی، بلکہ وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوگی۔

جیسی سہولت سے لائبریریاں ہمارے کمپیوٹر پر دستیاب ہیں۔ اس سہولت کو کونسل کی تمام لائبریریوں میں دستیاب کرانا، انہیں نیٹ ورکنگ کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑنا اور

نی دہلی، 10 نومبر 2014ء: تحقیق کی شروعات گزشتہ تحقیقات کے مطالعہ اور پہلے سے موجود معلومات کی چھان بین سے ہوتی ہے جو کہ لائبریری کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے لائبریری کے بغیر تحقیق کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سید شاکر جمیل، ڈائریکٹر جنرل، سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن (سی سی آر یو ایم) نے کیا۔ آج صبح لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر سی سی آر یو ایم کی سہ روزہ ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے پروفیسر جمیل نے کہا کہ انفارمیشن ٹکنالوجی کی بدولت پچھلے چند سالوں میں لائبریری کا تصور بالکل بدل گیا ہے۔ آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ

سی سی آر یو ایم میں لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ کا انعقاد



نئی دہلی، ۱۲ نومبر ۲۰۱۴ء (پریس ریلیز) سی سی آر یو ایم کی سہ روزہ لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ کے اختتامی پروگرام میں کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد محمود صدیقی نے تحقیق کے لئے یونانی کتب خانوں کی اہمیت پر ڈور ڈالا اور کہا کہ ہمیں آج یونانی کتب خانوں میں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ یونانی کونسل کے ملک کے مختلف حصوں میں قائم اداروں کی لائبریریوں کو آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ کے ذریعہ جوڑا جا رہا ہے جسکی کافی وقت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہ یونانی کونسل کی درخواست پر میٹشل انفارمیٹکس سینٹر، نئی دہلی نے اپنا تیار شدہ سوفٹ ویئر ای گرنٹھالیہ مہیہ کرایا ہے اور ہماری لائبریریوں کے ڈاٹا کو اپنی ویب سائٹ پر ڈالنے کی رضا مندی ظاہر کی ہے۔ اس ورکشاپ میں اس سوفٹ ویئر کے مطابق

کونسل کے لائبریریوں کو ٹرینڈ کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا افتتاح کونسل کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر سید شا کر جمیل صاحب نے بروز پیر ۱۰ نومبر کو کیا تھا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تحقیق کی شروعات گزشتہ تحقیقات کے مطالعہ اور پہلے سے موجود معلومات کی چھان بین سے ہوتی ہے جو کہ لائبریری کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے لائبریری کے بغیر تحقیق کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ جیسی سہولت سے لائبریریاں ہمارے کمپیوٹر پر دستیاب ہیں۔ اس سہولت کو کونسل کی تمام لائبریریوں میں دستیاب کرانا، انہیں نیٹ ورکنگ کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑنا اور ان سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ تحقیقی کاموں میں تیزی اور آسانی پیدا ہوگی۔

امام عبد اللہ بخاری ویلفیئر آرگنائزیشن
صفت: ہر چھ گھنٹے 8 سے 10 بجے تک
Lab, X-Ray, MRI, CT-Scan, ECG, USG سے 50% رعایت
ہر سے چھ گھنٹے صرف 10 روپے میں علاج
وقت صبح 9:30 بجے سے دوپہر 1:00 بجے تک
شام 5:00 بجے سے 9:00 بجے تک
ادارہ: نئی دہلی، انارکلی، پارک، ہاسٹل، نئی دہلی، موبائل: 7042759446
امام عبد اللہ بخاری ویلفیئر آرگنائزیشن، نئی دہلی، موبائل: 8527581786
سید حسن بخاری صدر، ڈاکٹر نصیر اطمین سکرٹری

روزنامہ خبریں

ROZNA MA
KHBREIN
NEW DELHI

FET FOCUS EDUCATIONAL TRUST
F-133/2, 4th Floor near Shaheen Masjid Shaheen Bagh,
Abu Fazal Enclave-II, New Delhi-25

Courses Available:	Facilities Available:
Basic Computer	Certified Trainers
Accounting (Tally ERP 9)	Structured Learning
Desktop Publishing	Additional Practice Sessions
Programming Language	Free Trial Classes Available
Web Design	Separate Classes for Girls
Hardware & Networking	Sunday Open for weekend Batches.
Database	

Hotline No. 01165020044/8800995359

سی سی آر یو ایم میں لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ کا انعقاد

نئی دہلی (ایجنسی) سی سی آر یو ایم کی سہ روزہ لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ کے اختتامی پروگرام میں کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد محمود صدیقی نے تحقیق کے لئے یونانی کتب خانوں کی اہمیت پر زور ڈالا اور کہا کہ ہمیں آج یونانی کتب خانوں میں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ یونانی کونسل کے ملک کے مختلف حصوں میں قائم اداروں کی لائبریریوں کو آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ کے ذریعہ جوڑا جا رہا ہے جس کی کافی وقت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہ یونانی کونسل کی درخواست پر نیشنل انفارمیکس سینیٹر، نئی دہلی نے اپنا تیار شدہ سوفٹ ویئر ای گرنٹھالیہ مہیا کرایا ہے اور ہماری لائبریریوں کے ڈاٹا کو اپنی ویب سائٹ پر ڈالنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس ورکشاپ میں اس سوفٹ ویئر کے مطابق کونسل کے لائبریریوں کو ٹرینڈ کیا گیا۔ ورکشاپ کا افتتاح کونسل کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر سید شاکر جمیل نے 10 نومبر کو کیا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر منور کاظمی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ اس ورکشاپ کے انعقاد سے کونسل کے مراکز میں کام کر رہے لائبریری اسٹاف کو یونانی تحقیق کاروں کی حوالہ جاتی ضرورتوں کو کم سے کم وقت میں پورا کرنے کی مدد ملے گی۔ ورکشاپ کے آرگنائزنگ سکرٹری محمد اظہر خاں نے مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔



URDU DAILY

NEW DELHI • PATNA

SADA-E-WATAN

JADEED

روزنامہ

وطن

نئی دہلی

ہندوستان کا منفرد اور کثیر الاشاعت اردو روزنامہ

sadaewatan583@gmail.com

DATED : 13-11-2014, PAGE No. 02

سی سی آر یو ایم میں لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ کا انعقاد

انہوں نے کہا تھا کہ تحقیق کی شروعات گزشتہ تحقیقات کے مطالعہ اور پہلے سے موجود معلومات کی چھان بین سے ہوتی ہے جو کہ لائبریری کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے لائبریری کے بغیر تحقیق کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ جیسی سہولت سے لائبریری (مار) ہمارے کمپیوٹر پر دستیاب ہیں۔ اس سہولت کو کونسل کی تمام لائبریریوں میں دستیاب کرانا، انہیں نیٹ ورکنگ کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑنا اور ان سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ تحقیقی کاموں میں تیزی اور آسانی پیدا ہوگی۔ اس موقع پر ڈاکٹر منور کاظمی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ اس ورکشاپ کے انعقاد سے کونسل کے مراکز میں کام کرنے والے لائبریری اسٹاف کو یونانی تحقیق کاروں کی حوالہ دہانی ضرورتوں کو کم سے کم وقت میں پورا کرنے کی مدد ملے گی۔ ورکشاپ کے آرگنائزنگ سیکرٹری محمد اطہر خاں نے مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔



اپنا تیار شدہ سوفٹ ویئر ای گرنٹھالیہ مہیہ کرایا ہے اور ہماری لائبریریوں کے ڈیٹا کو اپنی ویب سائٹ پر ڈالنے کی رضا مندی ظاہر کی ہے۔ اس ورکشاپ میں اس سوفٹ ویئر کے مطابق کونسل کے لائبریریوں کو فرینڈ کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا افتتاح کونسل کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر سید شاکر جمیل صاحب نے بروز جمعہ ۱۰ نومبر کو کیا تھا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے

نئی دہلی، ۱۲ نومبر ۲۰۱۴ء (محمد سفیان) سی سی آر یو ایم کی سرورسہ لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ کے اختتامی پروگرام میں کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد محمود صدیقی نے تحقیق کے لئے یونانی کتب خانوں کی اہمیت پر زور ڈالا اور کہا کہ ہمیں آج یونانی کتب خانوں میں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ یونانی کونسل کے ملک کے مختلف حصوں میں قائم اداروں کی لائبریریوں کو آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ کے ذریعہ جوڑا جا رہا ہے جسکی کافی وقت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہ یونانی کونسل کی درخواست پر پینٹل انفارمٹکس سینٹر، نئی دہلی نے

سی سی آر یو ایم میں لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر ورکشاپ
 نئی دہلی (پریس ریلیز) تحقیق کی شروعات گزشتہ تحقیقات کے مطالعہ اور پہلے سے موجود معلومات کی
 چھان بین سے ہوتی ہے جو کہ لائبریری کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے لائبریری کے بغیر تحقیق کا تصور
 نہیں کیا جاسکتا۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سید شا کر جمیل، ڈائریکٹر جنرل، سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان
 یونانی میڈیسن (سی سی آر یو ایم) نے کیا۔ آج صبح لائبریری آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ پر سی سی آر یو ایم کی
 سہ روزہ ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے پروفیسر جمیل نے کہا کہ انفارمیشن ٹکنالوجی کی بدولت پچھلے چند
 سالوں میں لائبریری کا تصور بالکل بدل گیا ہے۔ آٹومیشن اور نیٹ ورکنگ جیسی سہولت سے لائبریریاں
 ہمارے کمپیوٹر پر دستیاب ہیں۔ اس سہولت کو کونسل کی تمام لائبریریوں میں دستیاب کرانا، انہیں نیٹ
 ورکنگ کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑنا اور ان سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے
 سے نہ صرف یہ کہ تحقیقی کاموں میں تیزی اور آسانی پیدا ہوگی، بلکہ وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوگی۔



لاہیری کی ایٹمیٹ اور نیٹ ورکنگ پرورشپ

ایٹمیٹ انفارمیشن، آئی سی ایم آر، نئی دہلی نے کہا کہ ہندوستان میں لاہیری ایٹمیٹ کی کوشش 60 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی جو کہ اب کافی آگے بڑھ چکی ہے۔

قبل ازیں ڈاکٹر خالد محمود صدیقی، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، سی سی آر یو ایم نے کہا کہ ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد کونسل کے مراکز میں کام کر رہے لاہیری اسٹاف کو لاہیری ایٹمیٹ اور نیٹ ورکنگ کی ٹریننگ دینا ہے تاکہ وہ کونسل کی لاہیریوں کے ایٹمیٹ اور نیٹ ورکنگ کے عمل میں معاون ہو سکیں۔ ورکشاپ کے آرگنائزنگ سکریٹری محمد اظہر خاں نے مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا۔

لاہیریوں میں دستیاب کرانا، انہیں نیٹ ورکنگ کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑنا اور ان سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ تحقیقی کاموں میں تیزی اور آسانی پیدا ہوگی، بلکہ وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوگی۔

نیشنل انفارمیشن سینٹر (این آئی سی)، نئی دہلی کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر آر کے مٹور نے کہا کہ ای۔گرنٹھالیہ سوفٹ ویئر جسے این آئی سی نے ہی بنایا ہے یہ کتب خانوں کے ایٹمیٹ اور نیٹ ورکنگ کی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اور این آئی سی یہ سافٹ ویئر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کو مفت مہیا کرتی ہے۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر وی کے سریواستو، ہیڈ، پبلیکیشن

نئی دہلی (پریس ریلیز) تحقیق کی شروعات گزشتہ تحقیقات کے مطالعہ اور پہلے سے موجود معلومات کی چھان بین سے ہوتی ہے جو کہ لاہیری کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے لاہیری کے بغیر تحقیق کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سید شا کر جمیل، ڈائریکٹر جنرل، سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن (سی سی آر یو ایم) نے کیا۔ آج صبح لاہیری ایٹمیٹ اور نیٹ ورکنگ پر سی سی آر یو ایم کی سہ روزہ ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے پروفیسر جمیل نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت پچھلے چند سالوں میں لاہیری کا تصور بالکل بدل گیا ہے۔ اس سہولت کو کونسل کی تمام

FRIDAY
14 NOVEMBER
2014

The Statesman

www.thestatesman.net



FIND US ONLINE
Twitter: @TheStatesmanIN
Facebook: www.thestatesman1873

Pages 16 INR 13.00

KOLKATA | NEW DELHI | GURUGRAM | BHUBANESWAR

PEOPLE'S PARLIAMENT, ALWAYS IN SESSION

OUTDOORS

Forecast: Mainly clear sky
Rainfall Nil

TEMPERATURE

Max: 27.6 (C) Min: 11.2 (C)

HUMIDITY

Max: 82% Min: 26%

SUNRISE | SUNSET



FROM
INNOVATIVE
TO BIZARRE

P9



DJOKOVIC EYES TO SPOT

P15

UNCERTAIN GLORY

HE HAD OBJECTED TO
USING HINDU OR
HINDUISM FOR
INDIAN CULTURE

P8



04

The Statesman

NEW DELHI, FRIDAY 14 NOVEMBER 2014

Capital

Unani medicines: CCRUM stresses on networking of information

STATESMAN NEWS SERVICE

New Delhi, 13 November

A Unani medicine body has spelled out curability features of the Unani medicine while underlining the need for bridging 'gap between the user and information' to popularize the oldest mode of treatment public during a three-day workshop in capital.

The workshop on 'Library Automation and Networking', conducted by the Library and Information Centre, Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM), department of AYUSH, ministry of health and family welfare concluded with sug-

gestions more and more dissemination of information.

During the programme, librarians of the Council's institutes from various parts of the country learned the latest information technology which they will use in their libraries for automation and networking.

Speaking during the valedictory function Dr Khalid Mehmood Siddiqui, deputy director general, CCRUM highlighted the achievement of the council in clinical and literacy research programmes of the Council. He said that the knowledge of renowned Unani physicians should be thoroughly studied and used for further

development of research in Unani system of medicine.

"It is the prime duty of the Unani libraries to acquire this knowledge, process and disseminate to the information seeker," he said.

Dr Siddiqui stressed on the networking of the CCRUM's libraries located in different parts of the country, saying, "It is necessary for bridging the space between the user and information."

He thanked the National Informatics Centre, ministry of communication and information technology, for providing eGranthalaya software for networking and automation of the council's libraries.

TwoCircles.net

DELIVERING NEWS, NOT PROFIT

http://twocircles.net/2014nov11/1415682797.html#.VGru_rCUf5M

Unani medicine council libraries to be automated

Submitted by TwoCircles.net on 11 November 2014 - 10:43am

By TCN News,

New Delhi: The Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM) libraries will be automated with the help of e-Granthalaya, a library automation software, announced Prof S Shakir Jamil, Director General, Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM) here.

“The basic need of research is to survey existing research and information which can’t be possible without libraries. It is therefore that the libraries should be equipped with the state-of-the-art technologies and facilities, Prof Jamil said while inaugurating the Council’s three-day ‘Workshop on library automation and networking’.



A scene of the inaugural function of three-day Workshop on Library Automation and Networking.

E-Granthalaya software is developed by National Informatics Centre (NIC), Mohammad Niyaz Ahmad, CCRUM's Research Officer (Publication), said in a release.

Dr RK Matoria, Technical Director, NIC said all support would be extended to the CCRUM for automation of its libraries and training of the library staff. Dr VK Srivastava, Head (Publication and Information), Indian Council of Medical Research (ICMR), New Delhi said the concept of library had undergone drastic change during last 10 years. Earlier, Dr Khalid M Siddiqui, Deputy Director General, CCRUM highlighted the importance of automaton and objectives of organizing the workshop. Azhar Khan, organizing secretary of the workshop, thanked the guests and participants, the release added.